

لائبریری میں خوش آمدید

اردو / URDU



دی میونسپل پبلک ریڈنگ لائبریری

D Biblioteca DELFINI

Corso Canalgrande 103 – 41121 Modena
consulenza.delfini@comune.modena.it
Tel. 059 203 2940

G Biblioteca GIARDINO

Via Curie 22/b – 41126 Modena
biblioteca.villaggio.giardino@comune.modena.it
Tel. 059 203 2224

C Biblioteca CROCETTA

Largo Pucci 33 – 41122 Modena
biblioteca.crocetta@comune.modena.it
Tel. 059 203 3606

R Biblioteca ROTONDA

Via Casalegno 42 – 41126 Modena
biblioteca.rotonda@comune.modena.it
Tel. 059 203 3660

معلومات

comune.modena.it/biblioteche



PROGETTO S.I.A.M.O. Sistema per l'Integrazione e l'Accoglienza a Modena



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea



Comune di Modena



MINISTERO DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

Obiettivo specifico 2. Integrazione / Migrazione legale

Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi

انٹرنیٹ کی پابندیاں

فحش، پر تشدد یا انسانی حقوق کے خلاف مواد پر مبنی ویب سائٹوں تک رسائی، سختی سے ممنوع ہے۔

جو بھی فرد اس قانون کی تعمیل کرنے میں ناکام ہوگا اسے انٹرنیٹ تک رسائی کرنے سے معطل کر دیا جائے گا۔

EmiLib، دنیا پر ایک ونڈو

موڈینا میونسپل لائبریری کے ارکان آن لائن ویب سائٹ emilib.it تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو تمام زبانوں میں مفت روزانہ کے اخبارات اور رسالے، موسیقی، ویڈیوز، آڈیو بکس (audiobooks) اور ای-بکس (e-books) کی پیشکش کرتی ہے۔

اس خدمت تک رسائی حاصل کرنے کے لئے، آپ کو ضرورت ہوگی:

- ENTE (تنظیم) کی فیلڈ میں 'Provincia di Modena' (موڈینا پرووینس) منتخب کریں
- سب سے نیچے، 'BM BiblioMo. Polo' کے بعد 'BM BiblioMo. Polo' پر اور اس کے بعد 'BM BiblioMo' پر کلک کریں
- اپنا صارف نام (اپنے لائبریری کارڈ پر موجود کوڈ) اور پاس ورڈ (آپ کے پہلی مرتبہ ویب سائٹ تک رسائی کرنے پر، پاس ورڈ dd/mm/yyyy فارمیٹ میں آپ کی پیدائش کی تاریخ ہوگا)



BIBLIOTECHE



داخلہ مفت

لائبریری میں آپ تمام عمر کے گروپوں کے لئے تمام قسم کی کتابیں پڑھ سکتے اور ادھار لے سکتے ہیں۔ آپ رسالے اور روزانہ کے اخبارات بھی پڑھ سکتے، اور انٹرنیٹ سرف کر سکتے ہیں۔ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ہمارے کیٹلاگ کو تلاش کر سکتے ہیں، تقریبات اور اجلاسوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، غیر ملکی زبان کی کتابیں اور رسالے، ساتھ ہی اطالوی اور دیگر زبان کے کورسز موجود ہیں۔

بچے اور نوجوان

لائبریری میں بچوں اور نوجوانوں کے لئے ان کی عمر کے گروپوں کے لیے موزوں کتابوں اور ویڈیوز کے مخصوص سیکشنز ہیں۔ Delfini لائبریری میں 0 سے 3 سال کی عمر والے چھوٹے بچوں کے لئے بیبی اسپیس، اور ماں کا دودھ پینے والے بچوں کے لئے ایک پٹ اسٹاپ حصہ ہے، جو بچوں کے کپڑے تبدیل کرنے والی سہولت سے بھی لیس ہے۔

لائبریری میں شمولیت

لائبریری میں شمولیت حاصل کرنا مفت ہے اور یہ آپ کو اجازت دیتی ہے:

- کتابیں اور رسالے، DVD، میوزک CD ادھار لینے کی
- (صرف Delfini لائبریری میں) فلمیں دیکھنے کی
- (صرف Delfini لائبریری میں) میوزک سننے کی
- انٹرنیٹ سرف کرنے کی
- کمپیوٹر پر متن لکھنے، انہیں USB پر محفوظ کرنے اور پرنٹ کرنے کی



لائبریری میں شمولیت حاصل کرنے کے لئے ضروری دستاویزات

لائبریری میں شمولیت حاصل کرنے کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک دستاویز کا پیش کرنا لازمی ہے:

- شناختی کارڈ
- پاس پورٹ
- ڈرائیونگ لائسنس
- رہائش کا درست اجازت نامہ

لائبریری کا رکنیت کارڈ

رکنیت کارڈ ذاتی ہیں، ان کے ختم ہونے کی کوئی تاریخ نہیں ہے اور انہیں تمام میونسپل لائبریریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 16 سال سے کم عمر افراد کے لیے والدین یا قانونی سرپرست کا اجازت نامہ ہونا لازمی ہے۔

اشیاء ادھار لینا

زیادہ سے زیادہ 3 میوزک CD اور زیادہ سے زیادہ 2 DVD کو شامل کرتے ہوئے، آپ کسی بھی ایک وقت میں 10 اشیاء تک ادھار لے سکتے ہیں۔ کتابوں کے ادھار کی مدت 30 دن میں ختم ہو جاتی ہے، جبکہ CD اور DVD کا ادھار 7 دن کے لیے ہوتا ہے۔

سیلف-سروس قرض

(صرف Delfini لائبریری)

ادھار کے سیلف-سروس اسٹیشنز آپ کو ایک وقت میں 10 اشیاء ادھار لینے اور واپس لوٹانے، ریزرویشنز چیک کرنے، ادھار کی مدت بڑھانے، کئے گئے لین دین کی یاد دہانی پرنٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔



ادھاری کی معطلی

اگر آپ ادھار لی گئی اشیاء کو واپس لوٹانے میں 30 دنوں سے زیادہ تاخیر کرتے ہیں تو آپ کے ادھار لینے کے حقوق کو معطل کیا جا سکتا ہے۔

اس معطلی کو اشیاء کی واپسی اور 13 یورو کے جرمانے کی ادائیگی کے ساتھ ختم کیا جائے گا۔

گم شدہ یا خراب کی گئی کتابوں، CD یا DVD کے لئے، برائے مہربانی لائبریری سے رابطہ کریں۔

انٹرنیٹ کو سرف کرنا

لائبریری میں آپ مندرجہ ذیل کا استعمال کر کے انٹرنیٹ سرف کر سکتے ہیں:

- اپنے موبائل فون، PC یا ٹیبلیٹ کو موڈینا WiFi (غیر محدود، آزاد اور وقت کی پابندی کے بغیر) سروس کے ساتھ منسلک کر کے
- روزانہ 1 گھنٹے تک انٹرنیٹ کے اسٹیشنز (جب تک آپ لائبریری کے ایک اندراج شدہ رکن ہیں، آپ بس ایک درست آئی ڈی۔ دستاویز دکھا سکتے ہیں اور لائبریری کے ذریعہ فراہم کردہ لاگ-ان کی تفصیلات کا استعمال کرتے ہوئے لاگ ان کر سکتے ہیں)

16 سے 18 سال کی عمر والے افراد جب تک ان کے پاس والدین یا قانونی سرپرست کی اجازت ہے انٹرنیٹ سرف کر سکتے ہیں؛ 14 سال تک کی عمر والے بچے صرف اپنے لائبریریئرز کی منتخب کردہ ویب سائٹوں تک ہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔